

دسمبر 9، 2024

طالب علم کے والدین

عزیزی

نیویارک ریاست عوامی صحت قانون کے مطابق، نیویارک شہر پبلک اسکولوں میں شرکت کرنے والے تمام طلباء کے لیے اب تک کے مطلوبہ مدافعتی ٹیکے لگوانا لازمی ہے۔ جیسے کے آپ کو آگاہ کیا گیا تھا، آپ کے بچے کو کئی ویکسینز کی مطلوبہ خوراکیں نہیں لگی ہیں۔

جن طلباء کو اب تک کے مدافعتی ٹیکے نہیں لگے ہیں ان سے مطلوب تھا کہ عمر کی مناسبت سے ہر مامونیت (امیونائزیشن) سلسلے کی پہلی خوراک 5 ستمبر، 2024 تک لگوا لیں۔ اسکے علاوہ، 20 ستمبر، 2024 تک، ایسے طلباء کے والدین سے مطلوب تھا کہ یہ ظاہر کریں کہ انہوں نے آگے آنے والے تمام مطلوبہ خوراکیوں کو لگوانے کے لیے مقررہ وقت ملاقات (اپوائنٹمنٹ) لیا ہے

کیونکہ آپ نے دستاویز فراہم نہیں کی ہے کہ آپ کے بچے نے مطلوبہ مدافعتی ٹیکے موصول کر لیے ہیں، آپ کے بچے کو فی الحال اسکول میں شرکت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لہذا، آپ کے بچے کو غیر حاضر شمار کیا گیا ہے۔

برائے مہربانی آگاہ ہوں کہ ریاستی قانون کے تحت، آپ سے یہ یقینی بنانا مطلوب ہے کہ آپ کا بچہ مکمل دن کی تعلیم میں شرکت کر رہا ہے۔ اگر آپ دستاویز فراہم کرنے کے قابل نہیں ہیں جس سے یہ ظاہر ہو سکے کہ آپ کے بچے نے مطلوبہ مدافعتی ٹیکے لگوا لیے ہیں، میں آپ کی محکمہ تعلیم کے دفتر برائے گھر پر تعلیم (ہوم اسکولنگ) سے 917-339-1793 یا ذیل پر رابطہ کرنے کی حوصلہ افزائی کرونگا homeschool@schools.nyc.gov

بخلوص،

پرنسپل